



YOUTH PARLIAMENT PAKISTAN

OFFICIAL DEBATES

Wednesday, September 18, 2013

The Youth Parliament met in the Margalla Hotel Hall Islamabad at five minutes past three in the evening with Mr. Speaker (Wazir Ahmed Jogazai) in the Chair.

Recitation from the Holy Quran

Resolution

Mr. Speaker: بسم الله الرحمن الرحيم Now we move to Item No. 2. Mr. Motasim Billah Khan, Mr. Ejaz Sarwar and Mr. Abdul Samad would like to move a resolution. Mr. Abdul Samad *sahib*.

Mr. Abdul Samad: Thank you Mr. Speaker. I would like to move a resolution that;

"This House is of the opinion that Ms. Aseela Shamim Haq, Deputy Speaker of the House, has failed to fulfill her duties in accordance with the responsibilities conferred to her. Therefore the House demands her removal and proposes electing new Deputy Speaker according to the rules and regulations."

Mr. Speaker, there were some concerns raised by the party and as an opposition party we demands that we need a new neutral Deputy Speaker.

Mr. Speaker: You have got to explain to the House that on what grounds she failed and how she failed? Not to like the face of someone, you have got to explain it. Since you moved a resolution and you have got to explain.

Mr. Abdul Samad: Sir, we were of the view and now I only read the resolution.

Mr. Speaker: Then you did not have the attention.

جی قائد حزب اختلاف صاحب! آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟

Mr. Kashif Ali (Leader of the Opposition): Thank you Mr. Speaker. The reason to move this resolution is because we as an Opposition Party believe that Deputy Speaker has failed to perform her duties as written in the resolution. Now there are various ways to look at this, I may not necessarily be able to delineate to all ethos. How she failed? Because this is a very factual sort of thing, right I can not quote

examples which may be hypothetical, which may be sort of an opinion based, you may not necessarily agree to me because you were not here.

میرے خیال میں اس resolution کا جو basis purpose ہے اور ہم believe کرتے ہیں کہ ایوان میں as per the rules and regulations ان کی performance fail ہوئی ہے۔ اس لیے میں honourable authority کو یہی propose کروں گا کہ آپ ایوان سے اس کے متعلق پوچھ لیں۔

جناب سپیکر: میں ایوان سے تو پوچھ رہا ہوں، but you are not explaining. جناب کاشف علی: میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں کہ میں اسے explain نہیں کر سکتا کیونکہ یہ بہت sensitive issue ہے جس پر میں نہیں چاہتا کہ میرا opinion کسی پر impose ہو کیونکہ اگر میں یہ کہوں کہ انہوں نے یہ کیا، وہ کیا۔ ان کی performance House کے سامنے ہے، اس لیے آپ ایوان سے پوچھیں، اس resolution کو explain کرنے سے کیا فائدہ ہو گا؟ یہاں اسٹہ ممبران بیٹھے ہیں، یہ چیز ان سے سامنے رکھیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ Leader of the Opposition جو بات کہہ رہے ہیں وہ genuine بات ہے، وہ اس کے لیے ووٹ دیتے ہیں، سو بسم اللہ، نہیں دیتے تو پھر بھی ٹھیک ہے کیونکہ اگر میں کہوں گا تو وہ influence ہوگا، وہ opinion based ہوگی hypothetical assumption ہوگی، اس لیے میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں اسے اپنے الفاظ میں explain کروں۔ میری آپ سے درخواست ہوگی کہ اگر ایوان سمجھتا ہے اور ہم جمہوریت پر یقین رکھنے والے ہیں اور majority اسے support کرتی ہے which means that she has failed, which sort of proofs what we are demanding? If we fails and House does not approve it, it means that what we are demanding is terribly wrong اور ہم اسے accept کریں گے۔

Mr. Speaker: Mr. Kashif the point is that your party has moved a resolution there must be some substantive reasons for removal of Deputy Speaker. There is a constitutional way that you have moved a resolution, the resolution is right here on the agenda and we are proceeding accordingly but she has a right to defend herself, you have the right to explain to the House that these are the reasons she should not be there. If there are cogent reasons, the House may agree with you and if they are none, the House may not agree with you, it's for the House not me. I would just really be having a voice vote, I would not entertain your hand rise and don't shout on the pitch of your points.

Mr. Kashif Ali: Honourable Speaker, the problem is whenever we propose something you get to sit on the Speaker's seat. Whenever the government proposes something there is Deputy Speaker which is sitting on the same seat and she bypasses all the rules and regulation. She never demanded a charge sheet against the removal of the preceding Prime Minister, no one demanded a charge sheet, that's why we are abiding ourselves to the rules and regulations which are taken place on this platform in the past, that's why we did not prepared a charge sheet. If you want I can do so, I respect the rules and regulations. I can bring this resolution again tomorrow if you want the charge sheet. I can come up with the charge sheet again because I don't want to impose my decision on any member sitting on this platform through an opinion.

Mr. Speaker: O.K. Ms. Aseela Shamim sahiba would you like to defend yourself?

Ms. Aseela Shamim Haq (Deputy Speaker Youth Parliament): I don't feel, I have been charged with anything, so when he comes up with charge sheet then I will say something about that.

Mr. Speaker: Thank you. Anyway now I put this resolution to the House.

(The motion was negatived)

Mr. Speaker: Mr. Kashif Ali sahib.

Mr. Kashif Ali: Mr. Speaker, there were few mikes open which a lot of people have seen. I request your honourable authority please go with the head count because we don't want to remain in a shadow

کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔

جناب سپیکر: ٹھیک ہے میں پھر کر لیتا ہوں۔ I put the resolution to the House.

جناب سپیکر: آپ دیکھ لیں۔

(Interruption)

جناب کاشف علی: جناب سپیکر! یہی تو مسئلہ ہے کہ جب ہم resolution لے کر آتے ہیں تو آپ آجاتے

ہیں اور جب کوئی اور resolution لاتا ہے تو پھر Deputy Speaker بیٹھ جاتی ہیں۔

Mr. Speaker: Anyway Kashif sahib, let's continue with the agenda and tolerate Deputy Speaker for another two days.

(Interruption)

Mr. Kashif Ali: Mr. Speaker, this is what the Opposition is demanding you are listening various voices from the government itself. You are hearing various voices from the government itself that go for the head counting, this is not the Opposition, this is the majority of the House which demanding so.

ہم shadow میں نہیں رہنا چاہتے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ یہ resolution منظور نہیں ہوتی سو بسم اللہ، میں اسے accept کروں گا۔ آپ ہمیں کم از کم ایک impartial ground تو دیں کہ ہم سمجھیں کہ ہم fail ہو گئے ہیں۔ شکر یہ۔

Mr. Speaker: What would you achieve tell me?

Mr. Kashif Ali: Mr. Speaker, I would achieve getting a new Deputy Speaker which follows rules and regulations. I would achieve removing a Deputy Speaker which has failed to perform her duties i.e. a biggest achievement for me, i.e. a biggest precedence that I want to set on this platform and I think that's all for me and I don't want anything else.

Mr. Speaker: Well, I take the sense of the House. Shall we go for the head count? O.K. Let us have the count head.

ایک معزز رکن: جناب والا! قائد حزب اختلاف بہت rules and regulation کو follow کرتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ reject ہوگئی ہے تو دوبارہ کسی صورت میں نہیں آسکتی۔ ویسے یہ ہر unexplainable بات کو بہت اچھے طریقے سے explain کرتے ہیں، آج ان کو explain کرنے کے لیے کچھ نہیں مل رہا، بڑی حیرت کی بات ہے، charge sheet ان کے پاس پوری تیار ہوتی ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ 99.99% plagiarism ہے۔ ان کو exact پتا ہوتا ہے، آج ان کو کچھ نہیں پتا۔ یہ کہتے ہیں میں کل charge sheet لاؤں گا۔ ٹھیک ہے کل آپ charge sheet لائیں، اس کے بعد بات ہوگی اور بحث ہوگی۔

جناب کاشف علی(قائد حزب اختلاف): جناب چیئرمین! یہ آپ کی authority کو by pass کر رہے ہیں، decision لینے والے آپ ہیں تو میرے خیال میں ان کو بیٹھ جانا چاہیے۔

جناب سپیکر: آپ authority کو چھوڑ دیں۔ جی Foreign Minister صاحب۔

جناب یاسر عباس: جناب والا! I think Opposition Leader خواہ مخواہ جذباتی ہو رہے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی charge sheet نہیں ہے جس کا ذکر یہ خود کرتے ہیں اور خود اس کو accept بھی کرتے ہیں۔ Then I would suggest that the House should keep it۔ جب تک charge sheet نہیں آتی، ایک سپیکر کو defend کرنے کا موقع نہیں ملتا، تب تک یہ resolution defer ہونا چاہیے، جس طرح یہاں ابھی reject ہوئی ہے، اسی طرح چلی جانی چاہیے۔

جناب سپیکر: وزیر اعظم صاحب، آپ کیا کہتے ہیں۔

Rana Faisal Hayat (Youth Prime Minister): Sir I think I would agree with Yasir.

اگر ان کے پاس کوئی allegations ہے تو یہ charge sheet لے کر آئیں اور دوسرا یہ ہے کہ جب ایک چیز reject ہوگئی ہے تو I think it should be done with this.

Mr. Speaker: As far as I am concerned, it stands rejected but since I regard Opposition.

جناب کاشف علی: آپ آواز سے جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ ہاتھوں سے جیت کر دکھائیں تو سو بسم اللہ مجھے آپ کی victory قبول ہے۔ یہ اتنے apprehensive کیوں ہیں۔ یہ اتنا ڈر کیوں رہے ہیں۔

Mr. Speaker: Please take your seat. I take my pronouncements back and this resolution will be brought tomorrow with your charge sheet. Thank you. Now we take Calling Attention Notice, Momina Naeem sahiba.

Miss Momina Naeem: Thank you honourable Speaker. I would like to invite the attention of the Youth Minister for Finance, Planning Affairs and Economics to a matter a urgent public importance regarding implementation of risk reduction policies formulated by National Disaster Management Authority in order to be ready to face any kind of Natural Disaster.

جناب سپیکر! جو basic point ہمیں یہاں پر raise کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ جب بھی ہمارے ملک میں سیلاب یا زلزلہ یا کوئی بھی قدرتی آفت آتی ہے تو ہمارے پاس نہ تو کوئی پہلے سے funding available ہوتی ہے، نہ کوئی پالیسی implemented ہوتی ہے جس کے مطابق ہم چل کر اس disaster کو manage کر سکیں کہ ہم کم سے کم نقصان ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال سیلاب آتا ہے اور لاکھوں لوگوں کی زندگیاں برباد کرتا ہے جس سے ان کے گھر اجڑتے ہیں، جس سے اور بہت سارے نقصانات بھی ہوتے ہیں میرے خیال میں جو پہلے پالیسی بنی ہوئی ہے، risk reduction policies بنی ہوئی ہے National Disaster Management Authority کی website پر available ہیں جس کو تمام ممبران اس کو read out بھی کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں ان پالیسیوں کو implement کرنا اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مون سون میں، ہر بارشوں کی season میں ہم سنتے ہیں کہ سیلاب آگیا ہے، جب زلزلہ آگیا تو ہم سنتے ہیں کہ ہماری buildings گر جاتی ہیں،

بڑے بڑے towers گر جاتے ہیں۔ یہ گرتے صرف اس لیے ہیں کیونکہ ہماری پالیسیاں بنی ہوئی ہیں لیکن ہم اس کو implement اس طرح سے نہیں کرتے کہ ہم بعد میں نقصانات کو کم کر سکیں۔ میں چاہتی ہوں کہ یہاں پر ہمارے Youth Minister اس پر تھوڑی سی توجہ دیں۔

جناب سپیکر: جی جناب منسٹر صاحب۔

وزیر خزانہ: شکریہ جناب سپیکر! اگر آپ نے پالیسی دیکھی ہوئی ہے تو اس میں تین main باتیں ہوئی ہیں، پہلی بات prevention کے بارے میں، دوسری mitigation کے بارے میں اور تیسری preparedness کے بارے میں ہے۔ محترمہ نے implementation کی بات کی میں انہیں بتانا چاہوں گا کہ اس کے جو اہم points ہیں، جس میں research ہے، strategic management ہے، اس میں academic affiliation ہے، ریسرچ سینٹرز کی بات کی گئی ہے، اس کے علاوہ ٹریننگ کی بات کی گئی ہے، Education system میں اس کو incorporate کرنے کی بات کی گئی ہے، monitoring and evaluation کی بات کی گئی ہے۔ میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ اتنی in depth پالیسی ہے کہ اس کو implement ہونے میں وقت لگے گا۔ اتنی جلدی یہ implement نہیں ہو سکتا، ہمیشہ سے یہ ہمارا مسئلہ رہا ہے، ہرگز میں یہ نہیں کہہ رہا کہ implement نہیں ہونی چاہیے لیکن اس کی implementation میں وقت لگے گا کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پالیسی کا جو main point ہے وہ یہ ہے کہ جو authorities ہیں وہ local government تک پہنچائی جائیں تاکہ زیادہ easily یہ کام ہو سکے اور زیادہ easily action لیا جا سکے۔ جب تک local bodies elections نہیں ہوتے، جب تک یہ سسٹم اچھی طرح سے develop نہیں ہوتا تب تک اس کی implementation اتنی آسان نہیں ہے لیکن ہاں اس کی implementation پر توجہ دینی چاہیے۔ شکریہ۔

جناب سپیکر: جی نجم ثاقب صاحب۔

Mr. Najam-us-Saqib: Thank you Mr. Speaker. I would like to invite the attention of Youth Minister for Interior, Kashmir and Gilgit Baltistan Affairs to the recent heinous act of rape with five years old girl in Lahore. It is the need of the hour to set entire all those who are involved in this barbarous crime. Along with that the steps must be taken for the instant treatment of the oppressed child. I am very sorry that the Interior Minister is not present in the House.

Mr. Speaker: But somebody will reply or respond on his behalf. You explain your case.

جناب نجم الثاقب: جناب والا! یہ اتنا serious issue ہے اور اس کو مذاق بنایا ہوا ہے۔ کچھ اس پر کیا نہیں جا رہا۔ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پنجاب کو اتنا بڑا صوبہ ہے اور اس کو پڑھا لکھا صوبہ مانا جاتا ہے پاکستان میں لیکن اس صوبے میں بھی اس طرح کے heinous acts ہوتے ہیں۔ بلوچستان کو tribal area کہتے ہیں اور سندھ کو barbarous کہتے ہیں اور ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ savages ہیں، ان کے پاس education نہیں ہے، poverty ہے، لیکن ان میں اس طرح کا issue نہیں ہے جس طرح کا خطرناک action یہاں پر ہوا ہے، اس صوبے میں ہوا ہے۔ Besides کہ یہاں پر تعلیم ہے، لوگوں کے پاس prosperity ہے، یہاں پر روزگار کے مواقع بہت زیادہ ہیں لیکن حکومت کو یہ چاہیے کہ اس پر کوئی رپورٹ لے کر آئیں، کوئی پالیسی لائیں، اس

طرح کیوں ہو رہا ہے۔ لوگ دندناتے پھر رہے ہیں، پنجاب میں ایک دفعہ نہیں ہوا، پچھلے صرف دو ماہ میں 119 cases اس طرح کے ہوئے ہیں جو رجسٹرڈ ہوئے ہیں۔

I would like the Minister for Interior, Kashmir and Gilgit Baltistan Affairs to come forward with the report and take these issues seriously and we will cooperate with him.

جناب سپیکر: جی وزیر صاحب۔

جناب یاسر عباس (وزیر برائے امور خارجہ): شکریہ سپیکر صاحب! سب سے پہلے یہ کہ ہمارے وزیر صاحب کی والدہ صاحبہ کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے سیشن میں نہیں آسکے، انشاء اللہ وہ کل ہمیں join کر لیں گے۔ Secondly calling attention notice پر بات کرنے سے پہلے I would like to condemn what happened in North Waziristan as a youth Foreign Minister and on behalf of my party and I would believe, embraced martyrdom. behalf of the entire House would like to condemn this heinous act and this is a reminder that TTP تحریک طالبان پاکستان ہے وہ اپنے ارادوں میں اٹل ہے اور ان کا مذاکرات کی میز پر آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور ایک وہ peaceful negotiations کے لیے تیار نہیں ہے۔ جناب سپیکر: بلکہ ان کے لیے دعا بھی کریں۔

جناب یاسر عباس: اب آتے ہیں Calling Attention Notice کی طرف آتے ہیں۔ جناب والا! یہ واقعہ بڑا افسوسناک ہے، اس پر نہ صرف پاکستان میں ایک عام ناثر پایا جاتا تھا کہ اسلامی ملک ہونے کے باوجود یہاں پر درندگی عام ہے اور یہاں پر انسانیت کی respect and value is just vanishing away. For that it is condemnable, in fact اس کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اس کو کس طرح condemn کروں، at the same time یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے معصوم لڑکی کی تمام medical treatment وغیرہ کے لیے خصوصی انتظامات کئے ہوئے ہیں اور ہر ایک دن بعد چیف منسٹر پنجاب اس کا جائزہ لے رہے ہیں اور at the same time ایک کمیٹی بنائی گئی ہے اور مجرموں کو پکڑنے کے لیے انہوں نے steps اٹھائے ہوئے ہیں۔ The Committee is taking up this issue and I believe that the culprits will be brought to the justice soon or within no time اور انشاء اللہ اس پر کافی پیش رفت ہوئی ہے اور ابھی کچھ دنوں میں مزید ہو جائے گی۔ شکریہ۔ جناب سپیکر: دیر میں جو accident ہوا ہے ان کے لیے دعا کریں۔

(اس مرحلے پر دعائے مرحومین کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی)

Mr. Speaker: This resolution is being moved by Hazrat Wali Kakar, Matiullah Khan Tareen, Nabila Jaffer and Mehwish Rani.

Mr. Hazrat Wali Kakar: Thank you Mr. Speaker. Sir, I beg to move the following resolution:

"This House is of the opinion that the Federal Government should take the Baloch nationalists on board before signing any development projects' agreement with an international community like Iran-Pak Gas Pipeline Gawadar Port project and so on by pursuing such meaningful

approaches would work recovering the wounds of the aggrieved Baloch and also it will boost the economy of the Province of Balochistan in particular and the country in general."

جناب سپیکر! میرے fellows اس resolution کی اہمیت کو جانتے ہوئے یہ Resolution لے کر آئے اس House میں کیونکہ جب سے ہم نے یہ سنا ہے Balochistan is a province of Pakistan جب بھی ہم کسی News میں دیکھتے ہیں چاہے یہ ٹیلی ویژن پر ہو چاہے ہم Newspaper پڑھتے ہوں لیکن ہمارے ذہن میں ایک ہی سوال آتا ہے، ہمارے ذہن میں ایک ہی headline نظر آتی ہے، ہمیں ایک ہی بات سننے کو آتی ہے کہ بلوچ ناراض ہیں لیکن ہم نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ بلوچ ناراض کیوں ہیں۔ ہم نے کبھی بھی اس بات پر غور نہیں کیا وہ آخر کیا چاہ رہے ہیں۔ ہم نے کبھی بھی اس بات پر focus نہیں کیا کہ آخر وہ لوگ اس stage تک کیوں گئے، آخر وہ کون سی وجوہات ہیں۔ لہذا ان سب چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ resolution کافی اہمیت کی حامل ہے۔ اس resolution میں جو main points ہیں کہ international community کے ساتھ کوئی بھی project کرنے سے پہلے Baloch nationalists کو on board لینا چاہیے۔ یہ اس لیے کہ جب سے ہم بلوچستان کے natural resources پر foreign international community کے ساتھ کوئی agreement کیا جاتا ہے تو اس میں بلوچستان کا Baloch Nationalist یا کوئی بھی ممبر on board نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہاں کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ Islamabad and Federal Government just want us on the behalf of natural resources کہ ہمیں اسلام آباد والے اور Federal Government اس لئے بلوچستان کو پسند کرتے ہیں کیونکہ بلوچستان میں natural resources ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو کچھ دیر سے یہاں پر quote کر رہا کہ according to official report copper, gold worth six hundred thirty million was produced during the 2004-08. Balochistan Government received 42% share, 40% foreign Community and rest of it goes to Islamabad. یہ کھلا تضاد ہے۔ اگر کوئی چیز، کوئی natural resource جس area سے پیدا ہو رہی ہے اور اس کو تیسرا حصہ مل رہا ہے اور 40% آپ اس کو دے رہے ہوں جو ایک foreign Community ہے۔ آپ یہ چرچا کر رہے ہو کہ پاک چین دوستی۔ کیا یہ پاک چین دوستی ہے؟ کیا اس میں آپ کو پاک چین دوستی نظر آ رہی ہے؟ وہ آپ کے natural resources کو use کرتے ہوئے 40% آپ سے لے رہا ہے۔ اس میں پاک چین دوستی کہاں سے نظر آ رہی ہے؟ اس لیے یہ بلوچوں کا بھی ایک point بنتا ہے۔ ہمارا بھی بنتا ہے، سارے پاکستانیوں کا بنتا ہے۔ لہذا جو بھی international community کے ساتھ Balochistan natural resources پر کوئی بھی agreement یا ملک میں کسی بھی international community کے ساتھ جو agreement ہونا ہے اس میں وہاں کی عوام کو بھی شامل کیا جائے تاکہ عوام کو اس پر رسائی ہو شکر یہ۔

جناب سپیکر: جناب مطیع اللہ خان ترین صاحب۔

جناب مطیع اللہ خان ترین: جناب! بلوچستان پر اس House میں ہم بہت debate کر چکے ہیں۔ اس کے مختلف پہلو پر ہم نے بہت ساری discussion کی ہے۔ شاید اس ایوان میں بیٹھے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ گروپ یا یہاں پر موجود بلوچستان کے کچھ ممبرز صرف بار بار بلوچستان ہی کی بات کرتے ہیں۔ اس لیے کیونکہ اس پارلیمنٹ میں مجھے یہ حق دیا گیا ہے کہ میں بلوچستان کو represent کروں اور وہاں کے مسائل

کی ہی بات کروں۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ بلوچستان پر جب جب ہم نے یہ بات کی سوائے ایک دو ممبران کے جن کے پاس knowledge تھا اور انہوں نے اس چیز کو صحیح سمجھا اور اس issue کو صحیح طریقے سے address کیا۔ کافی سارے ممبران سے on the record یہ کیمرہ چل رہا ہے on the record باتیں آپ نکلوا سکتے ہیں کہ بلوچستان کے issue کی انہوں نے اس لیے support کی ساتھ میں یہ quotations quote کرتے ہوئے کہ بلوچستان آپ کے ملک کا بہت بڑا حصہ ہے، اس میں بہت بڑے natural resources اس میں بہت زیادہ natural gas وغیرہ ہے تو آپ اس کو اپنے آپ سے جدا نہ ہونے دیں secessionist movement کو ختم کر دیں۔ کیا آپ بلوچستان میں secessionist movement کیا آپ بلوچستان میں ایک separatist movement کیا آپ بلوچستان کے اندر ہونے والی activities کو صرف اس لیے مارنا چاہتے ہیں کہ بلوچستان natural resources رکھتا ہے اور وہ ایک بڑا صوبہ ہے اور وہ ایک بہت بڑا part ادا کرتا ہے۔

This is a question from me. It is mind bubbling question for me which hounds me time and again in this House when I am sitting and facing every member of the House time and again and when they talk about Balochistan and its rights and the right of the people in Balochistan.

جناب سپیکر! اس وقت بلوچستان میں ایک nationalist government ہے اور وہ حکومت وہاں کی موجود قوم پرست جماعتوں پشتونخواہ ملی عوامی پارٹی، نیشنل پارٹی، BNP اور باقی ایسی تمام parties جو کہ قوم پرست جماعتیں ہیں ان ہی نے ان کو form کیا ہے، ان قوم پرست جماعتوں کا ہمیشہ یہ sentence ہے کہ ان کو ہمیشہ اقتدار میں رہنے والے لوگوں سے ایک گلہ رہا ہے کہ ان کو ان کے حقوق جو ان کو ملنے تھے وہ نہیں دیے گئے، بلوچستان کے ساتھ ہمیشہ زیادتیاں کی گئی ہیں، ان زیادتیوں کا ازالہ کرنے کے لیے اس گورنمنٹ کو میری پہلی یہ request ہے اور پچھلے ہاؤس میں بھی آپ کی موجودگی میں یہ request میں کر چکا ہوں کہ میں federal government سے اس پلیٹ فارم پر اور تمام ان متعلقہ لوگوں سے request کرتا ہوں کہ جو بلوچستان کی حکومت فارم کی گئی ہے اسے آزادانہ طور پر کام کرنے دیا جائے، اس کے راستے میں hurdles create کی جا رہی ہیں، اس کی Cabinet ابھی تک form نہیں ہونے دی گئی اس کے باقی جو معاملات ہیں وہ کیسے آگے چل پائیں گے۔ جن projects کی ہم نے اس resolution کے اندر بات کی ہے جیسے گوادر projects ہے، پاک-ایران گیس پائپ لائن، سندک پراجیکٹ اور اس طرح کے جتنے projects ہیں ان projects میں ہم دیکھتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اور وفاق کی طرف سے ایک dictate کرنے والی جو term ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے۔ وہ کبھی بھی وہ term جو provincial ہوتی ہے یا federation کی جو ایک spirit ہوتی ہے اس spirit میں رہتے ہوئے ان terms کو کبھی decide نہیں کیا گیا۔ اس کی چھوٹی مثال میں آپ کو دوں گا۔ سوئی گیس ضلع سوئی سے نکلتی ہے and you will find out in the 2 miles radius of Sui District, there is absence of Sui Gas, sue gas extract ہو رہی ہے، پورے پاکستان کو وہاں سے سوئی گیس 1954 سے مل رہی ہے یعنی اس کی extraction کر بعد سے۔ یہ 1992 کوئٹہ میں پہنچتی ہے اور اس کے علاوہ اس کے 2 miles کے radius میں، ابھی بھی آپ سوئی میں چلے جائیں تو اس ضلع میں جہاں سے گیس نکلتی ہے وہاں یہ موجود نہیں ہے۔ Only four districts in Pakistan وہ بھی مشرف کے دور میں آکر 2004 onwards کہ four to five districts of Balochistan میں گیس کی فراہمی ensure کروائی گئی، اس سے پہلے گیس کی فراہمی ensure نہیں

So, we request the Federal Government and we request all the concerned authorities once again-تھی۔ کی گئی تھی۔
 کہ جو بھی projects بلوچستان کے حوالے سے ہوں it is not only about Balochistan بلکہ تمام provinces کے
 حوالے سے کوئی بھی project کسی بھی province کے حوالے سے اٹھایا جائے ، اس project کو اس province
 کی concerned authorities کے ساتھ discuss کر کے ان کو on board لے کر تب وہ project initiate کیا جائے ۔
 جناب سپیکر! 18th Amendment, 1973 کے آئین میں بہت اہمیت رکھتی ہے اور یہ amendment پچھلی گورنمنٹ
 لے کر آئی تھی اس amendment میں ایک بہت ہی 'fiscal decentralization' important point کا ہے کہ جو بھی
 صوبہ ہے ان کے جتنے بھی resources بنتے ہیں، ان resources پر ان province کا ہی پہلے اختیار ہے اس کے
 بعد federal government کا ان کے اوپر اختیار آتا ہے۔ ان fiscal decentralization کے اس point پر بھی
 practically عمل کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہا ۔ - of fiscal decentralization is only and fairly that
 federation has been incorporated in the Constitution of Pakistan through 18th Amendment, but practically
 this point of fiscal decentralization is still missing when we see that the Gawadar port which was handed
 over to one of the private international corporation for development, on that very decision, the nationalist in
 Balochistan and the Government of Balochistan were not taken in confidence in and if they were the people
 of Balochistan the real essence the people of Balochistan which lies in the nationalists, they were not called
 on board ان کو on board نہیں لیا گیا اور اس decision میں اور اس طرح کے تمام projects میں ان کو
 لے بغیر ہی تمام decisions کر دیئے جاتے ہیں شکر۔

جناب چیئرمین: محترمہ نبیلہ جعفر صاحبہ ، She is not present ، محترمہ مہوش رانی ،

she is also absent then I have Reyyan Niaz Khan.

جناب ریان نیاز خان صاحب: جناب! یہاں پر resolution پیش کی گئی ۔ سب سے پہلے تو
 مطیع اللہ ترین صاحب نے بات کی ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف بلوچستان کی بات کرتے ہیں
 اور واقعی پانچ session گزر چکے ہیں یہ بلوچستان کی ہی بات کرتے ہیں ۔ terrorism کی بات کرتے ہیں تو ان
 کو پتا ہونا چاہیے کراچی میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ۔ اس کو highlight نہیں کرتے اور جہاں تک انہوں
 نے ایک اور بات کی کہ جی ان کو حقوق نہیں ملے تو ان کو پتا ہے انہوں نے خود ہی discuss کیا کہ اب آغاز
 حقوق بلوچستان start ہو چکا ہوا ہے۔ اس پر آگے آگے کام ہو رہا ہے ۔ مسئلہ کہاں پیش آ رہا ہے ؟
 transparency میں آ رہا ہے ، جو funds allocate ہو رہے ہیں، جو divisions ہو رہی ہیں وہ proper ہو رہی ہیں
 لیکن ان کے صوبے میں transparency issue آتا ہے اور وہاں سے کام خراب ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ
 education میں بلوچستان کے students کو scholarships ملنے شروع ہو گئے ہیں۔ پچھلے سال کے بجٹ میں
 اچھا خاصا کوٹہ تھا اور graduates and post graduates کے لیے باہر کے special scholarships تھے۔ ان کو
 ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ پیچھے رہ گئے ہیں، حکومت نے کچھ اقدامات لیے ہیں اور انشا اللہ آئندہ آنے
 حکومتیں بھی اس پر further build up کریں گے اور ہم بھی اس floor پر ان کے لیے آواز اٹھائیں گے اور ان
 کے ساتھ چلیں گے۔ انہوں نے کہا کہ we should take all Balochistan Nationals on board میں اس ایوان کی بات
 کروں گا کہ ان کی پارٹی کا ایک فرد بلوچستان سے تعلق رکھتا ہے اور انہوں نے اس کو بلوچستان کے کسی

بھی مسئلے پر کسی resolution میں on board نہیں لیا تو باقیوں سے کیا توقع کرتے ہیں۔ اس طرح سے اس چھوٹے سے ایوان میں ان کی division ہے تو وہاں پر اور اس level پر کیا دیکھیں گے۔ شکریہ۔
جناب سپیکر: مطیع اللہ ترین۔

جناب مطیع اللہ ترین: جناب! اس resolution سے پہلے میں نے اسی لیے بات کی تھی اور شاید ریان نیاز صاحب اس وقت سو رہے تھے کہ ہم بلوچستان کے ممبر ہیں۔ اس ایوان میں مجھے اس کام کے لیے بلایا گیا ہے کہ میں اپنے علاقے اور پورے ملک کو represent کرتے ہوئے ان کے issues کی بات کروں تو میرے لیے پہلی priority میرا صوبہ ہی ہے۔ پینسٹھ سال گزر گئے بلوچستان کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس کو تمام حکومتیں، ادارے اور تمام سربراہاں اس چیز کو مانتے ہیں کہ بلوچستان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ ریان نیاز صاحب پینسٹھ سال بعد یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی آپ ہر وقت صرف رونا روتے ہیں۔ میری ان سے درخواست ہے کہ وہ تھوڑا پڑھ کر بھی آئیں اور تمام معاملات کو دیکھ کر بات کیا کریں۔
جناب سپیکر: شکریہ۔ جناب اقبال زہری صاحب۔

جناب محمد اقبال زہری: شکریہ سپیکر۔ یہ محترم فرماتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کا living standard بہتر ہو رہا ہے، وہاں کے students کو education دی جا رہی ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ آپ جو کچھ دے رہے ہیں، ہمارے resources کی وقعت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ وہاں جو آغاز حقوق بلوچستان شروع کیا گیا ہے تو nationalists کو بالکل on board نہیں لیا گیا۔ وفاقی اور صوبائی حکومت کو چاہیے تھا کہ وہاں کے nationalists کو on board لے کر ان کی consultation پیکج تیار کرتے۔ گوادر اور سینڈک کے منصوبوں میں بھی nationalists کی contribution نہیں ہے۔ ٹھیک کے چین کو ٹھیکہ دیا ہے، وہ ہمارا دوست ہمسایہ ہے، اس نے پاکستان اور بلوچستان کی ترقی کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ وہاں کے projects جس ملک یا کمپنی کو دیا جاتا ہے وہ وہاں کے لوگوں کے لیے کیا کرتا ہے، وہاں کے لوگوں کے living standard and education کو بہتر بنانے کے لیے ایک مخصوص percentage وہاں پر spend ہونی چاہیے۔ جب سے یہ projects دیے جا رہے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ وہاں پر کوئی کالج یا یونیورسٹی بنائی گئی ہو حتیٰ کہ وہاں پر پینے کا پانی میسر نہیں ہے، سڑکیں نہیں ہیں۔ وہاں سے سونا نکال کر باہر بھیج رہے ہیں جو ہمارے ملک میں واپس آ کر کئی گنا مہنگا بیچا جاتا ہے۔ وہاں کے لوگوں کو ان کے حقوق دیے جائیں ہم کافی عرصے سے رونا رو رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور اس مسئلے کو سنجیدگی سے لے کر وہاں transparent policy impose کی جائے۔
شکریہ۔

جناب سپیکر: شکریہ۔ جناب فیضان ادريس صاحب۔

جناب فیضان ادريس: جناب سپیکر! شکریہ۔ میں ان ممبران کی resolution کو support کرتا ہوں لیکن کچھ نکات بیان کروں گا کہ میرے محترم ممبران نے ذکر کیا کہ وفاق اور دوسرے صوبے ان کا حق مارتے ہوئے ان کے resources utilize کرتے ہوئے ان کے rights exploit کر رہے ہیں۔ جناب سپیکر! یہ دیکھا جائے کہ سب سے پہلی کمزوری وہاں کی political leadership کی ہے جس نے اپنے لوگوں کے لیے کبھی اس طرح نہیں سوچا جس طرح دوسرے صوبوں کی political leadership نے کوشش کی۔ بگٹی سے لے کر رئیسائی

تک اور بلوچوں سے لے کر پشتونوں تک بلوچستان پر حکومت کرتے رہے لیکن انہوں نے اپنے لوگوں کی development, education and health کے لیے کبھی stand لیا اور نہ ہی efforts کیں۔ آپ بے شک وفاق، صوبوں اور armed forces کو blame کریں لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ آپ کے گھر کو آپ کے اپنے گھر کے چراغ سے آگ لگی ہے۔ پہلے آپ اپنی political leadership کو accountable کریں۔ آپ ان کو ووٹ دیتے ہیں تو پانچ سال بعد یہ بھی پوچھیں کہ ہمیں results چاہیں۔ صرف blame game کرنے کی بجائے اپنا house in order کرنا چاہیے۔ شکریہ۔

جناب سپیکر: شکریہ۔ جناب کاشف علی صاحب، Leader of the Opposition.

جناب کاشف علی: جناب سپیکر! شکریہ۔ مطیع اللہ ترین صاحب نے ایک بات کی کہ انہیں being a member of this House right دیا گیا ہے کہ اپنی constituency کے problems address کریں۔ میں ان کو مبارک دیتا ہوں کہ یہ واحد گروپ ہیں جنہوں نے حکومت کی طرف سے اس platform پر ان کی ہی resolutions اور آپ چاہیں تو ہر order of the day دیکھ سکتے ہیں۔ I really appreciate کہ انہوں نے بڑے serious issues پر کام کیا ہے and it is fact that they don't have any ministry because they don't go and bow in front of the Prime Minister but still they put every effort. جناب سپیکر! ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے بلوچستان کو ہمیشہ law and order کے prism سے دیکھا ہے اور جب national resources کی بات آتی ہے تو ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ بلوچستان کو دیکھ لیتے ہیں۔ جب چین کے ساتھ گوادر پر MoU sign ہوتا ہے، ایران پاکستان پائپ لائن کا MoU provincial government of the Peoples Party sign ہوتا ہے مگر اس میں Balochistan کا کوئی کردار نہیں ہے۔ آپ نہ صرف ایک province کو alienate کر رہے ہیں بلکہ constitutional violation as well. اگر آپ 18th Amendment دیکھیں جو کہ ایک بڑی constitutional achievement of this country ہے، اس میں بھی provincial autonomy کی بات کی گئی اور اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ اس amendment میں ہے کہ یہ سارے subjects جو گوادر اور shipment سے related they fall under the federation but they also give certain liverish to the provincial government but we saw provincial government totally side line کیا جاتا جب حکومت اس قسم کے project push forward کرتی ہے۔ میں ان کی resolution سے مکمل agree کرتا ہوں and I think we should unanimously pass this resolution and should give a clear message to the Pakistani government it should have a maximum contribution by the Baloch nationalists and by the Provincial Government of Balochistan until and you can't distribute

جناب سپیکر: شکریہ۔ جناب یاسر عباس صاحب Minister for Internal Affairs. You are representing

the Prime Minister.

جناب یاسر عباس: جناب سپیکر! شکریہ۔ یہ resolution حضرت ولی کاکڑ، مطیع اللہ ترین، نبیلہ جعفر اور مہوش رانی نے اس ایوان میں پیش کی ہے and I strongly endorse it and agree with what they have added in this resolution. جناب! حیرانی کی بات ہے کہ پاکستان میں کچھ ایسی practices ہوتی ہیں جہاں سے

Being an aggrieved party myself as I belong to the region - concept شروع ہو جاتا ہے۔ provincial alienation of Gilgit-Baltistan, I can totally understand that what Mameullah Tareen and Hazrat Wali Kakar really have road to say. اس طرح کے کچھ واقعات ہمارے ساتھ بھی ہوئے تھے۔ خنجراب سے لے کر ادھر تک کی construction کا کام ہوتا ہے اور پاکستان سے federal delegation کے لوگ جاتے ہیں اور گلگت بلتستان کا کوئی نمائندہ اس کا حصہ ہی نہیں ہوتا۔ Coming to the Balochistan issue, yes since 65 years it has been ignored badly constitutionally, economically and socially as well. پاکستان میں عام تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ چونکہ بلوچستان strategically important location پر ہے، وہاں پر natural resources پائے جاتے ہیں، اس لیے ہم بلوچستان کی development or economic spirit پیدا کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، ہمیں اس لیے وہاں پر development کی بات کرنی چاہیے کہ first of all Balochistan is the part of Pakistan. It is the land of people who have contributed for the freedom of Pakistan.

اس لیے انہیں ہماری support کی ضرورت ہے، اس وجہ سے نہیں کہ وہاں economic opportunities ہیں، یا کوئی بھی natural resources ہیں جو پاکستانی حکومت exploit کر سکتی ہے۔ حال ہی میں کچھ ایسے steps لائے گئے ہیں، پچھلی حکومت کے دوران جو آغاز حقوق بلوچستان آرڈیننس پیش کیا گیا، حکومت نے جسے initiate کیا تھا، جس کے مطابق لوگوں کو scholarships سے لے کر economic sector سے لے کر social circle میں لانے کی ایک کوشش کی گئی تھی، میرے خیال میں وہ کافی نہیں تھی۔

I think this is indeed a first step towards addressing the grievances of Balochistan but it is not what Balochi people deserve. deserve more than what Government of Pakistan is no giving to them.

اس کے بعد ایک اہم پیش رفت اس حوالے سے یہ ہوئی کہ ابھی گوادر کے معاملے پر جو delegation گیا تھا اور جتنے بھی MoUs sign ہوئے تھے، پرائم منسٹر نواز شریف کا چین کا جو پہلا state visit تھا، اس میں ایک اچھی بات یہ تھی کہ بلوچستان کے چیف منسٹر جو ایک nationalist ہیں، وہ بھی وفد کا حصہ تھے۔ اس کے علاوہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے ministers بھی وفد کا حصہ تھے۔ So, it is a first step. Though may be it is not an enough thing to do that but still

بلوچستان کا مسئلہ اس لیے بھی complication کا شکار ہے کہ وہاں سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگ، خود بلوچی لوگوں نے in the name of nationalism, have actually enslaved the people of Balochistan. بلوچستان کے اپنے ہی کچھ نام نہاد leaders ہیں، ان کا بھی اپنا قصور ہے۔ وہ federal کے ہاتھ سے sell out ہوتے ہیں اور اپنے لوگوں کو under-represented ہی رکھتے ہیں۔ اسی لیے پاکستان میں ایک عام تاثر پایا جاتا ہے کہ وہاں ایک سرداری نظام موجود ہے۔ اس لیے بلوچی عوام کو سب سے پہلے اپنے ان لوگوں کے خلاف کھڑا ہونا ہے جو انہیں enslave رکھنا چاہتے ہیں، جو ان کو تعلیم اور بنیادی حقوق سے محروم رکھنا چاہتے ہیں۔ بلوچی عوام کو ایسے عناصر کے خلاف کھڑا ہونے کی ضرورت ہے۔

اس کے علاوہ، ریان خان صاحب نے بات کی کہ ہمارے بلوچی ا رکان صرف بلوچستان کی بات کرتے ہیں۔ Definitely, they have to talk about Balochistan because they belong to Balochistan. ہماری یوتہ

پارلیمنٹ میں شمولیت اسی بنیاد پر ہوئی اور آئندہ ہمارا analysis اور ہماری assessment بھی اسی بات پر ہوگی کہ ہم نے جو issues اپنے form میں لکھے تھے، ان پر بات کی یا نہیں۔ ریان خان صاحب کیا چاہتے ہیں کہ ہم یہاں کیا discuss کریں؟ مجھے ریان خان کی بات سمجھ نہیں آتی کہ بلوچستان کے معاملے پر بات نہ کریں یا کسی دوسرے معاملے پر بات کریں۔ You have to talk about what you have mentioned in the form. اس فارم میں، میں نے اپنے علاقے کے حوالے سے لکھا تھا، دوسرے لوگوں نے اپنے علاقوں کے حوالے سے لکھا ہوگا۔ ایک عام پاکستانی کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر ہمارے ملک کے، اس جسم کے کسی حصے میں کوئی complication پائی جاتی ہے تو اسے ٹھیک کرنے کے لیے ایک collective effort کریں تاکہ یہ کہیں کہ پہلے سر میں درد ہے، اسے ٹھیک کرو، ٹانگ میں درد ہے، اسے ٹھیک کرو۔ You have to go collectively with every effort.

جہاں تک اپوزیشن لیڈر کی بات ہے، میرے خیال میں ان کی تو عادت بن چکی ہے ہر جگہ اپنی politics چمکانے کی۔ جس طرح انہوں نے ذکر کیا کہ پارٹی میں کوئی مسئلہ ہے یا کسی کو منسٹری نہیں ملی تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ Everyone is in good term with each other. میرے خیال میں اپوزیشن لیڈر کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ دوسری پارٹی میں ہونے والے معاملات پر finger pointing کریں۔ اس کے علاوہ، اپوزیشن لیڈر اس بات کو بھی سمجھیں کہ اگر ہم اس پلیٹ فارم پر آئے ہیں، ماننے والی بات ہے کہ ہم issues کو discuss کرسکتے ہیں اور اس ہم اس deliberation کے ذریعے ایک solution کی طرف آسکتے ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے یہ دیکھ کر کہ اپوزیشن لیڈر ایک negative role play کر رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے کل کلاس اگر قومی اسمبلی میں اس طرح کے اپوزیشن لیڈر آگئے تو پاکستان کا پھر خدا ہی حافظ ہے۔

Sir, I would conclude by saying that I fully endorse this resolution as being the Foreign Minister and on behalf of my party. Thank you sir.

Mr. Speaker: Now, I put the motion for this resolution to the House for vote.

(The motion was carried)

Mr. Speaker: Majority is in the favour, so the resolution is adopted. Next item is in the name of Arsalan Ali sahib and Ali Humayun.

Mr. Arsalan Ali: Sir, I would like to move the following resolution:

"This House is of the opinion that all the political and religious parties should cooperate with the Government in Karachi operation and Government should make sure that it will not be politicized."

یہ ایوان جناب نواز شریف صاحب، وزیر اعظم پاکستان کی کراچی میں قیام امن کی کوششوں کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہے کہ انہوں نے تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کی محرومی دور کرتے ہوئے، All Parties Conference (APC) call کی اور ان کی رضامندی کے ساتھ کراچی آپریشن کا آغاز کیا۔ انہوں نے اس آپریشن کا کپتان، وزیر اعلیٰ سندھ جناب قائم علی شاہ صاحب کو بنایا۔ میں اس resolution کے ذریعے یہ demand کرتا ہوں کہ تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں اس عمل میں حکومت کا ساتھ دیں اور اپنی صفوں میں موجود تمام دہشت گردوں، بہتہ خوروں اور ٹارگٹ کلرز کی نشاندہی

کریں۔ اگر ان کے خلاف کبھی آپریشن ہوتا ہے تو وہ واویلا نہ کھڑا کریں کہ ہمارے خلاف زیادتی ہو رہی ہے۔ اگر کسی کے پاس proofs ہیں، تو خود ہی hand over کر دیں۔

دوسری بات، میں حکومت کو بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ اس چیز کو باور کرائے کہ یہ آپریشن کسی سیاسی یا مذہبی جماعت کے خلاف استعمال نہیں ہوگا۔ جب APC بلائی گئی تھی تو نواز شریف صاحب نے یہ وعدہ کیا تھا کہ تمام سیاسی و مذہبی جماعتیں اور کراچی میں موجود تمام تاجر تنظیموں کو بٹھا کر ایک کمیٹی بنائی جائے گی جو اس آپریشن کی نگرانی کرے گی اور اس کی غیرجانبداری کو یقینی بنائے گی۔ اس کمیٹی کا قیام ابھی تک عمل میں نہیں آسکا ہے، جس سے اس آپریشن کی غیر جانبداری سے متعلق بہت سے خدشات ابھر رہے ہیں۔ حال ہی میں ایک سیاسی جماعت کے سابقہ MPA کو اٹھا گیا جبکہ ان کے خلاف کوئی proof نہیں تھے۔ پھر ان کے خلاف FIR کاٹ دی گئی۔ اس کے بعد کورٹ نے ان کے خلاف جسمانی ریمانڈ بھی دے دیا۔ سات دن بعد پتا چلتا ہے کہ ان کے خلاف کوئی proof نہیں اور انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ایسی باتوں سے معاملات بہتر ہونے کی توقع نہیں کی جاسکتی۔ اس سے لوگوں میں پائی جانے والی محرومی بڑھتی ہے اور پھر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ مجرم پکڑو، مہاجر نہ پکڑو۔ لیاری سے بلوچ کھڑے ہوجاتے ہیں اور پھر پٹھان بھی کھڑے ہوجاتے ہیں۔ جہاں جہاں محرومی پائی جاتی ہے، ان لوگوں کو موقع مل جاتا ہے کھڑے ہونے اور بغاوت کرنے کا۔ میری گزارش ہوگی کی ایسے مواقع فراہم نہ کیے جائیں۔ حکومت کو چاہیے کہ آپریشن کی غیرجانبداری کو یقینی بنائے۔ شکر یہ۔

Madam Deputy Speaker: Thank you. Mr. Yasir Abbas *sahib*.

Mr. Yasir Abbas: Sir, the Karachi issue is indeed a burning issue. Over the last many years, Karachi is in a state of war. I believe whatever Mr. Arsalan Ali and Humayun has mentioned in this resolution is strongly agreeable and I fully endorse this resolution. I believe that stability of Karachi is the stability of Pakistan, its economic survival and political stability. So, I endorse this resolution.

Mr. Speaker: Then I put the motion to the House for approval.

(The motion was carried)

Mr. Speaker: Majority is in favour of the motion, so the resolution is adopted. With this, the House is adjourned till tomorrow at 10:30 am.

[The House was adjourned to meet again on Thursday, the September 19, 2013 at 10:30 am]
